

سُوْرَةُ الْيَسِيْنِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَخَمْسٌ وَرُكُوعَاتٌ

سورہ یس مکہ میں نازل ہوئی اس میں تراسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

یَس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۲ اِنَّکَ لَیْسَ

حکمت والے قرآن کی قسم بے شک

الْمُرْسَلِیْنَ ۳ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴

تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۵ لِنُذِرَ قَوْمًا مَّا

عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو

اَنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَاَمْ غٰفِلُوْنَ ۶ لَقَدْ حَقَّ

ڈرناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں

الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ فَاَمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷

اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے

اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فِیْ اِلٰی

ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیتے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں

الَّذُقَانِ فَمَا مَقْحُونَ ⑧ وَجَعَلْنَا مِنْ

تک ہیں تو یہ اوپر کو مٹھتا اٹھاتے رہ گئے اور ہم نے اُن کے

بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

آگے دیوار بنا دی اور اُن کے پیچھے ایک دیوار اور

فَاَعْسَيْنَاهُمْ فَمَا لايُبْصِرُونَ ⑨ وَسَوَاءٌ

انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا اور انہیں

عَلَيْهِمْ ءَاذُنًا مِّنْ اَمْرٍ لَّيْسَ لَهَا سَمْعٌ وَّاهُمْ لَا

ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان

يُؤْمِنُونَ ⑩ اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

لانے کے نہیں تم تو اسی کو ڈر سناؤ جو نصیحت پر چلے

وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ⑪ فَبَشِّرْهُ بِغُفْرَةٍ

اور رحمن سے بے دیکھے ڈرے تو اُسے بخشش اور عزت کے

وَاَجْرٍ كَرِيمٍ ⑫ اِنَّا نَحْنُ نَحْيُ الْمَوْتَىٰ وَ

ثواب کی بشارت دو بیشک ہم مُردوں کو جلاتیں گے اور

نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ

ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور

ثُمَّ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۚ ^{١٢} وَأَضْرِبْ

ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں اور ان سے

لَهُمْ مَثَلًا لِّصَاحِبِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا

نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس

الرُّسُلُونَ ۚ ^{١٣} إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

فرتادے آتے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّوْا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا

پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب کے کہا کہ

إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۚ ^{١٤} قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

بیشک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے

مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ

آدمی اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَاذِبُونَ ۚ ^{١٥} قَالُوا سُبْحَانَ

تم زے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب

يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۚ ^{١٦} وَمَا

جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے

عَلَيْنَا إِذْ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٤﴾ قَالُوا إِنَّا

زمرہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا بولے ہم تمہیں

تَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْلِينَ لَمَّا تَنَزَّلَتْهُمُ الرِّجْسُ

منجوس سمجھتے ہیں بیشک اگر تم باز نہ آتے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار

وَلَيْسَ لَكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ ﴿١٥﴾ قَالُوا

کریں گے اور بیشک ہمارے ہاتھوں تم پر ڈکھ کی مار پڑے گی انہوں نے

طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ لَمُذْمَبُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا

فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارا ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم بھجائے گئے بلکہ تم حد

قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا

سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے

الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ

سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم

اتَّبِعُوا الرُّسُلَ إِنَّكُمْ لَتَارِثُونَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا

بھیجے ہوؤں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو

يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا ﴿٢١﴾

تم سے کچھ نیگ نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں

وَقَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ

اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے پیدا کیا اور اسی کی

تَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾ أَلَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

طرف تمہیں پلٹتا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں

أَنْ يُّرِدَّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي

کہ اگر رحمن میرا کچھ بُرا چاہے تو ان کی سفارش میرے

شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي

کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے بے شک

إِذَا الْفَيْ ضَلَّ مَبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي أَمِنْتُ

جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں بے شک میں تمہارے

بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

رب پر ایمان لایا تو میری سنو اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو

قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا

کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی

عَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُومِينَ ﴿٢٧﴾

میں نے گمراہی کی اور مجھے عزت والوں میں کیا

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے

مِنْ جُنُودٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں کوئی لشکر

مُنزِلِينَ ۲۸) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً

اتارنا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ

وَإِحْدَاةٌ فَإِذَا هُمْ خِدَاوُنَ ۲۹) يُحْسِرُونَ

تھتی جیھی وہ بچھ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہاتے

عَلَى الْعِبَادِ ۳۰) مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ

افسوس ان بندوں پر جب اُن کے پاس کوئی رسول آتا ہے

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَمِزِعُونَ ۳۱) أَلَمْ يَرَوْا

تو اُس سے بھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ

كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ

دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں

أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۳۲) وَإِنْ كُلُّ

کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں اور جلتے بھی ہیں

لَهَا جَبِيَّةٌ لَدَيْنَا مُحَضَّرُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِيَّاهُ

سب کے سب ہمارے حضور حاضر لاتے جائیں گے اور اُن کے

لَهُمُ الْأَرْضُ الْبَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا

یہ ایک نشانی مَرُوہ زمین ہے ہم نے اُسے زندہ کیا اور پھر

مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا

اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے

فِيهَا جَدَّتْ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَ

اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے اور

وَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعْيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ

ہم نے اس میں سے کچھ چشمے بہاتے کہ اس کے پھلوں

ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلْتُمْ أَيُّدِيهِمْ أَفَلَا

میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بناتے نہیں تو کیا

يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَاج

حق نہ مانیں گے پاکی ہے اُسے جس نے سب جوڑے بنائے ان

كُلِّهَا هِيَ تَلْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

ہی چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں

وَمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِيَّاهُمْ آيَةُ اللَّيْلِ ﴿٣٩﴾

سے جن کی انہیں خبر نہیں اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے

نَسَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں ہیں

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ رَبِّ

اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے یہ حکم ہے

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٤١﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ

زبردست علم والے کا اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں

حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٤٢﴾ لَا الشَّمْسُ

یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں

يَتَّبِعِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ

پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر

سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٣﴾

سبقت لے جاتے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے

وَإِيَّاهُمْ آيَةُ لَنَّا دَرَيْتُمْ فِي الْفُلْكِ

اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پٹھریں ہم نے

الْمُسْحُونَ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا

بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر

يُرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَسُوا نَجْرَهُمْ فَلَا صَرِيحَ

سوار ہوتے ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو

لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ

تسہلنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور

مَنْعًا إِلَى حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا

ایک وقت تک برتنے دینا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو

مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید

تُرْحَبُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا نَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ

پر کہ تم پر نہر ہو منہ پھیر لیتے ہیں اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی

آيَةٍ رَّبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَ

نشانی ان کے پاس آتی ہے تو ان سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں اور

إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ

جب ان سے فرمایا جاتے اللہ کے دیتے ہیں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ

کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اُسے کھلائیں جسے

لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی

مُهَيِّبِينَ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ

مگراہی میں اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ

وَإِحْدَاةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۚ فَلَا

کی کہ انہیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ

يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ

وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پہنچ

يُرْجِعُونَ ۚ وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ

کر جائیں اور پھونکے جانے گا صور جیسی وہ

الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۚ قَالُوا

قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے کہیں گے

يُؤَيِّنَا مِنْ بَعَثْنَا مِنْ مُرْقِدِنَا مَرَّ هَذَا مَا

ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا یہ ہے وہ

وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے سچی فرمایا

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ جیسی وہ سب کے

جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ يَوْمَ لَا

سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی

نُظْمَ نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا تَجْرُونَ إِلَّا مَا

جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلا نہ ملے گا مگر

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

اپنے کئے کا بے شک جنت والے آج

الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ

دل کے بہلاؤوں میں چین کرتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں

فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَّكِعُونَ ﴿٥٦﴾

سایوں میں ہیں تختیوں پر تکیہ لگاتے

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَاللَّهُمَّ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٨﴾

ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٩﴾ وَأَمَّا زُورًا

ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا اور آج الگ

الْيَوْمَ أَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَيْفَ يُصَلُّونَ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ يَأْتُواكُم بِبَيِّنَاتٍ

پھٹ جاؤ اے مجرمو! اے اولاد آدم کیا

إِلَيْكُمْ بَيِّنَاتٍ لِّتَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

میں نے تم سے عمدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا

إِنَّ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٦١﴾ وَإِنْ أَعْبُدُونِي

بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ

یہ سیدھی راہ ہے اور بیشک اس نے تم میں سے

جِبْرًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٤﴾

یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا

إِصْلُوحًا يَوْمَ يُكْفَرُونَ ۝٦٣

آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

آج ہم اُن کے مونہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ

أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی

يَكْسِبُونَ ۝٦٤ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے

فَأَسْبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنَّ يُبْصِرُونَ ۝٦٥ وَلَوْ

پھر پلک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا اور اگر

نَشَاءُ لَسَخَّرْنَاكُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا

ہم چاہتے تو اُن کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے

أَسْطَافًا وَمُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝٦٦ وَمَنْ

نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے اور جسے

نَعْبُرُكَ نَنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝٦٧

ہم بڑی عمر کا کریں اُسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ

اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو

إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٤٨﴾ لِيُنذِرَ مَنِ

نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اُسے ڈراتے ہو

كَانَ حَيًّا وَيَعِشُ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ

کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے

أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ ﴿٥٠﴾ وَ

ان کے لیے پیدا کئے تو یہ ان کے مالک ہیں اور

ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا

انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی

يَأْكُلُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمِمَّا يَرْبُؤْنَ

کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے

أَقْلَامًا يَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ

کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا

اللَّهُ إِلَهُكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ

ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿٤٥﴾

کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے

فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ

تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور

مَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اُسے پانی کی

مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤٧﴾ وَ

بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے اور

ضَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَتَسَىٰ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ

ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون

يَعْبُدُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٤٨﴾ قُلْ يَحْيِيهَا

ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ باہکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ

الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ

زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اُسے ہر پیدائش کا

عَلِيمٌ ﴿١٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ

علم ہے جس نے تمہارے لیے ہرے پٹر میں سے آگ

الرَّخْضِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٢٠﴾

پیدا کی جھبی تم اس سے سلگاتے ہو

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے

يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِنْكُمْ ذَكَرٌ ﴿٢١﴾

ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی

هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٢١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ

ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب

شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٢﴾

کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرماتے ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے

فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ

تو پاک ہے اُسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ

شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٣﴾

ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے